

نیویارک میں گھریلو کارکنان کے لیے مزدور کے حقوق اور تحفظات

گھریلو کارکنان کے لیے معلومات

گھریلو کارکنان اور ان کے آجروں کو قانون محنت (Labor Law) کے تحت حقوق حاصل اور ان پر ذمہ داریاں عائد ہیں، جس میں گھریلو کارکنان کا حقوق کا مسودہ قانون ('Domestic Workers' Bill of Rights) شامل ہے، جو 29 نومبر 2010 کو نافذ العمل ہوا۔ مزید تفصیلات کے لیے، www.labor.ny.gov پر جائیں۔

گھریلو کارکنان کون ہے؟

”گھریلو کارکن“ ایسا شخص ہے جو دوسرے شخص کے گھر میں کام کرتا ہے۔ ان کے کام میں شامل ہے:

- بچوں کی یا بیمار یا عمر رسیدہ شخص کی دیکھ بھال کرنا
- گھر کی دیکھ بھال کے کام
- آجر کے گھر میں انجام پانے والے دیگر گھریلو فرائض

اس قانون میں ایسے گھریلو کارکنان شامل نہیں ہیں:

- جو اپنے آجروں کے گھر میں اتفاقی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جیسے جزوقتی آرائیں
- جو اپنے آجروں کے یا وہ جس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس شخص (ان اشخاص) کے رشتہ دار ہیں

گھریلو کارکنان کو جان لینا چاہیے

نیو یارک اسٹیٹ کے قانون محنت، بشمول گھریلو کارکنان کے حقوق کا مسودہ قانون کے تحت:

- آپ کو کم سے کم اقل اجرت ادا کی جانی چاہیے

- آپ کو ایک تقویمی ہفتے میں 40 گھنٹے کام کے بعد ادائیگی کی آپ کی بنیادی شرح کے ڈیڑھ گنا کے لحاظ سے فاضل وقت کی ادائیگی موصول ہونی چاہیے (اگر آپ اپنے آجر کے گھر میں رہتے ہیں تو، آپ کو ایک ہفتے میں 44 گھنٹے کے کام کے بعد فاضل وقت کی ادائیگی ملنی چاہیے۔)

- آپ کو ہفتے میں ایک دن (24 گھنٹے) آرام دیا جانا چاہیے – یا، اگر آپ اس دن کام کرنے سے اتفاق کرتے ہیں تو، آپ کو فاضل وقت کی شرح کے لحاظ سے ادائیگی کی جانی چاہیے

- آپ کم از کم اسی آجر کے لیے ایک سال کام کرنے کے بعد تین مامعاوضہ دن کی چھٹی کی مستحق ہیں

اگر آپ ہفتے میں کم از کم 40 گھنٹے کام کرتے ہیں تو، آپ درج ذیل کے ذریعہ بھی محیط ہیں:

- کارکنان کے بیمہ کا معاوضہ ('Workers' Compensation Insurance) اگر آپ دوران ملازمت زخمی ہوتے ہیں، اور
- معذوری سے متعلق مراعات کا بیمہ (Disability Benefits Insurance) اگر آپ کام سے الگ زخمی ہوتے یا بیمار پڑ جاتے ہیں اور نتیجے میں سات دن سے زیادہ کام چھوٹ جاتا ہے۔
- اگر آپ ”ہمراہی کی خدمات“ فراہم کرنے، جیسے کسی عمر رسیدہ فرد کی دیکھ بھال کے لیے کسی ایجنسی کے ذریعہ بر سر ملازمت رکھے گئے ہیں، تو، فاضل وقت کے بارے میں اصول اور آرام کے مطلوبہ دن کا اطلاق آپ کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔
- اگر آپ اپنے آجر یا محکمہ محنت سے ان قوانین محنت کی کسی خلاف ورزی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں تو، آپ کا آجر آپ کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا ہے۔ محکمہ محنت میں شکایت درج کروانے کے لیے، 1-888-469-7365 پر کال کریں یا محکمہ محنت کے ضلعی دفاتر کی فہرست کے لیے www.labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/workprot/lsdists.shtm پر جائیں۔
- گھریلو کارکنان کے حقوق کا مسودہ قانون آپ کے آجر کی جانب سے ہراسانی کی بعض قسموں سے آپ کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ کا آجر آپ کو ناگوار جنسی پیش قدمیوں یا جنسی نوعیت کے دیگر زبانی یا جسمانی اعمال کا مستوجب نہیں بنا سکتا ہے۔ وہ صنف، نسل، مذہب، یا قومی نژاد کی بنیاد پر آپ کو ہراساں نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ شکایت درج کرواتے ہیں تو وہ انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ باضابطہ شکایت عدالت میں یا نیو یارک اسٹیٹ کے شعبہ برائے انسانی حقوق (New York Division of Human Rights) کے پاس درج کروا سکتے ہیں۔ آپ www.dhr.ny.gov پر یا بذریعہ فون 1-888-392-3644 (ٹول فری) معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
- اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کم قیمت کے صحت بیمہ کے بارے میں جاننے کے لیے، www.nyhealth.gov پر نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت (New York Department of Health) کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ ہوم صفحہ کے دائیں طرف ”سائٹ کے مشمولات“ (”Contents“) والے حصے پر ”صحت بیمہ پروگرام“ (”Health Insurance Programs“) بٹن تلاش کریں۔

شعبہ برائے نیو یارک ریاست کا محکمہ محنت

نیو یارک اسٹیٹ کا محکمہ محنت ایک مساوی موقع والا آجر/پروگرام ہے۔ معاون امداد اور خدمات معذور افراد کے لیے درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔